

17 اپریل 2018

## موسمی حالات کے دوران سٹی آف برامپٹن کی کاروائیوں کے بارے میں تازہ ترین معلومات

برامپٹن، آن: پچھلے ہفتے کے دوران ہمیں موسم بہار کے ایک غیر متوقع طوفان کا سامنا کرنا پڑا، جس نے جنوبی اونٹاریو کے زیادہ تر حصے، بشمول برامپٹن کو متاثر کیا ہے۔ ژالہ باری، برف کی ٹکڑیوں، بچ بستہ اور تندو تیز طوفانی بارش نے شہر کے عملہ اور برامپٹن کے رہائشیوں کو خوب چیلنج کیا۔

آج بعد از دوپہر (بروز منگل) شہر کے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے رہائشی گلیوں میں جمی ہوئی برف کو پگھلانے کے لیے نمک پاشی کی جائے گی۔ توقع کے مطابق کل تک تمام سڑکوں پر نمک پاشی کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔

سٹی انتظامیہ نے کچھ سائیڈ واک ٹریکٹروں کا بندوبست بھی کیا ہے اور ان کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ اہم مقامات پر بہت جلد ان کے امدادی کام شروع کر دیے جائیں۔

کئی شہری کہہ رہے ہیں کہ سٹی نے رہائشی گلیوں میں کدال چلانے کا کام کیوں نہیں کیا۔ اس کی درج ذیل دو وجوہات ہیں:

- انوائرنمنٹ کینیڈا کی جانب سے بارش کی پیشگوئی اور سیلاب پر نظر رکھنے والے ہمارے مقامی حکام کی جانب سے منگل کو جاری ہونے والے انتباہ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ رہائشی گلیوں میں ہل نہیں چلائے جائیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے نکاسی آب کی جالیاں برف کے ٹکڑوں کے پھنس جانے سے بند ہو سکتی ہیں اور سیلاب کی تباہ کاریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
- زیادہ تر دیگر میونسپلٹیوں کی طرح، برامپٹن کے سردیوں کے اکثر کام بھی کنٹریکٹ کے ذریعے کروائے جاتے ہیں۔ جب مارچ کے اختتام پر یہ کنٹریکٹ ختم ہو جاتے ہیں، تو زیادہ تر ٹھیکیدار اپنے سازو سامان اور کارکنان کو آگے آنے والے تعمیراتی کاموں میں لگا دیتے ہیں۔
- اس مرتبہ آنے والے سیلاب کی غیر متوقع طوالت - اور اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ہل چلانے کی نسبت نمک پاشی کا کام تین گنا تک زیادہ ہو سکتا ہے - عملہ نے ایک خاص حکمت عملی کے تحت یہ کام کیا ہے۔ ویکینڈ کے دوران، اہم شاہراہوں پر ہل چلانے اور نمک پاشی کے کام کی منصوبہ بندی کی گئی۔ بروز پیر، جب درجہ حرارت میں اضافہ ہونا شروع ہوا، تو اہم شاہراہوں کو صاف کرنے کے علاوہ سیلاب سے بچاؤ پر بھی توجہ دی گئی۔

شہری انتظامیہ کے عملہ نے سیلاب سے پہلے درج ذیل تیاریاں کی ہوئی تھی، بشمول:

- انوائرنمنٹ کینیڈا کی جانب سے موسم کے بارے میں پیشگوئیوں پر نظر رکھنا
- معاہدہ ختم ہو جانے والے ٹھیکیداروں سے رابطہ کر کے یہ پوچھنا کہ وہ کیا وسائل فراہم کر سکتے ہیں؛ بدقسمتی سے، عمومی ٹھیکیداروں کی جانب سے 50 فیصد تک ہی معاونت دستیاب تھی
- یقین دہانی کرنا کہ نمک کا کافی ذخیرہ موجود ہو
- دستیاب وسائل کی بنیاد پر ایک ایکشن پلان مرتب کرنا۔

ان تمام کاروائیوں کے دوران شہریوں کی جانب سے کیے گئے تعاون پر سٹی آف برامپٹن تہ دل سے مشکور ہے۔ شہری انتظامیہ کا عملہ موسم کی پیشگوئیوں اور سڑکوں کی صورت حال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔

نئی اور تازہ ترین صورت حال کے بارے میں جاننے کے لیے، براہ کرم سٹی آف برامپٹن کو ٹوئٹر، فیس بُک اور [www.brampton.ca/snow](http://www.brampton.ca/snow) پر فالو کریں۔ اگر آپ 311 کو کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو براہ کرم یاد رکھیں کہ اس وقت ان

کو بہت زیادہ کالیں موصول ہو رہی ہیں اور آپ کو معمول سے زیادہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوئی سروس ریکوئیسٹ درج کرانے کے لیے، آپ [311@brampton.ca](mailto:311@brampton.ca) پر ای میل کر سکتے ہیں یا [service.brampton.ca/service-requests/report-snow-issues](http://service.brampton.ca/service-requests/report-snow-issues) پر آن لائن فارم بھی بھر سکتے ہیں۔

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوارڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654